

بسم اللہ لغات القرآن تالیف محمد مصطفی شریف د. عبدالعزیز عبدالرحیم UnderstandQuran Academy, Hyd., India آیت نمبر - لفظ - معنی (((((پارہ-1)))))) ﴿سورة البقرة﴾											
2	ذَلِكَ	یہ	7	حَتَمَ	مہر لگادی	13	أَتُؤْمِنُ	کیا ہم ایمان لائیں	19	أَوْ	یا
2	لَا رَيْبَ	نہیں شک	7	قُلُوبِهِمْ	انکے دل (قَلْب: دل)	13	سُفَهَاۗءُ	بیوقوف	19	صِيبٌ	بارش
2	فِيهِ	اس میں	7	سَمِعِهِمْ	انکے کان	13	لَا يَظْلُمُونَ	وہ نہیں جانتے	19	سَمَاءُ	آسمان (سموات: pl)
2	مُتَّقِينَ	پرہیز گار	7	أَبْصَارِهِمْ	انکی آنکھیں	14	إِذَا لَقُوا	جب وہ ملتے ہیں	19	رَعْدٌ	گرج
3	يُؤْمِنُونَ	ایمان لاتے ہیں	7	غَشَاوَةً	پردہ	14	خَلَوْا	اکیلے ہوتے ہیں	19	بَرْقٌ	چمک بجلی کی
3	غَيْبٌ	غیب، پوشیدہ	7	عَذَابٌ	عذاب	14	شَیَاطِينٍ	شیطان کی جمع	19	يَجْعَلُونَ	وہ ٹھوس لیتے ہیں
3	يُقِيمُونَ	قائم کرتے ہیں	7	عَظِيمٌ	بڑا	14	مَعَكُمْ	ساتھ تمہارے	19	أَصَابِعُهُمْ	انگلیاں انکی
3	الصَّلَاةِ	نماز	8	النَّاسُ	لوگ	14	مُسْتَهْزِءُونَ	مذاق کرنے والے	19	الْأَذَانُ	کان انکے (أَذْن: sg)
3	مِمَّا	جو کچھ، اس سے	8	مَنْ	جو	15	يَمْدُهُمْ	بڑھاتا ہے انکو	19	صَوَاعِقُ	کڑک (صاعقه: sg)
3	رَزَقْنَا	دیا ہم نے	8	يَقُولُ	کہتے ہیں	15	طُغْيَانِهِمْ	سرکشئی انکی	19	حَذَرٌ	ڈر
3	هُمْ	انھیں	8	إِنَّمَا	ہم ایمان لائے	15	يَعْمَهُونَ	وہ اندھے ہو رہے ہیں	19	مَوْتُ	موت
3	يُنْفِقُونَ	خرج کرتے ہیں	9	يُخَادِعُونَ	دھوکہ دیتے ہیں	16	اشْتَرَوْا	مول لیا، خریدا	19	مُحِيطٌ	گھیرنے والا
4	بِمَا	اس پر جو	9	مَا	نہیں	16	ضَلَالَةً	گمراہی	19	الْكَافِرِينَ	کافر لوگ
4	أُنْزِلَ	نازل کیا گیا	9	إِلَّا	مگر	16	فَمَا رَیْحَتُ	پس نہ فائدہ دیا	20	يَكَاذُ	قریب ہے
4	إِلَيْكَ	آپ کی طرف	9	أَنْفُسُهُمْ	اپنے آپ	16	تِجَارَتِهِمْ	تجارت انکی	20	يَخْطِفُ	اُچک لے
4	قَبْلِكَ	پہلے آپ سے	9	مَا يَشْعُرُونَ	نہیں وہ سمجھتے	16	مُهْتَدِينَ	ہدایت پانے والے	20	كُلَّمَا	جب کبھی
4	آخِرَةَ	آخرت	10	مَرَضٌ	بیماری	17	مَنْطَلُهُمْ	مثال انکی	20	مَشَاوُا	جل پڑے
4	يُؤْفِكُونَ	یقین رکھتے ہیں	10	فَرَادَهُمْ	سو بڑھادیا انکو	17	لَکَ	مانند، جیسے	20	أَظْلَمَ	اندھیرا ہوا
5	أُولَٰئِكَ	وہی لوگ	10	أَلَيْسَ	درد ناک	17	الَّذِي	وہ جو، جس نے	20	فَأَمُّوْا	کھڑے ہوئے
5	مُفْلِحُونَ	کامیاب، فلاح پانے والے	10	كَانُوا	تھے وہ	17	اسْتَوْقَدَ	بھڑکانی	20	لَوْ	اگر
6	إِنَّ	ہے شک	10	يَكْذِبُونَ	جھوٹ بولتے	17	نَارٌ	آگ	20	شَاءَ (ش ي ء)	چاہتا
6	كَفَرُوا	کفر کیا انھوں نے	11	إِذَا قِيلَ	جب کہا جاتا ہے	17	فَلَمَّا	پھر جب	20	كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز
6	سَوَاءٌ	برابر	11	لَا تُفْسِدُوا	مت فساد پھیلاؤ	17	أَصْنَآءَ تَ	روشن کردیا	20	فَدِيرٌ	قادر
6	ءَ	خواہ	11	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	17	حَوْلَهُ	اردگرد اسکے	21	يَا أَيُّهَا النَّاسُ	اے لوگو
6	أَنْذَرْتَهُمْ	آپ ڈرائیں انکو	11	قَالُوا	وہ کہتے ہیں، انھوں نے کہا	17	ذَهَبَ بَ	چھین لیا	21	أَعْبُدُوا	عبادت کرو
6	أَمْ	یا	11	إِنَّمَا	صرف	17	نُورِهِمْ	روشنی انکا	21	خَلَقَكُمْ	پیدا کیا تم کو
6	لَمْ	نہ	11	نَحْنُ	ہم	17	تَرَكَ	چھوڑ دیا	21	لَعَلَّكُمْ	ناکہ تم
6	تُنذِرُهُمْ	ڈرائیں انھیں	11	مُصْلِحُونَ	اصلاح کرنے والے	17	ظُلُمَاتٍ	اندھیرے	21	تَتَّقُونَ	تم پرہیز گار ہوجاؤ
			12	أَلَا	سن رکھو!	17	لَا يُبْصِرُونَ	نہیں وہ دیکھتے	22	جَعَلَ	بنایا
			12	مُفْسِدُونَ	فساد کرنے والے	18	صُمٌّ	بہرے	22	لَكُمْ	تمہارے لیے
			12	لَكِنَ	لیکن	18	بُكْمٌ	گونگے	22	فِرَاشًا	فرش
			13	آمِنُوا	ایمان لاؤ	18	عُمًى	اندھے	22	بِنَاءٌ	چھت
			13	كَمَا	جیسے	18	لَا يَرْجِعُونَ	نہیں لوٹیں گے	22	أَنْزَلَ	اُتارا

22 مَاءٌ	پانی	25 أَتُوا	انہیں دیا گیا	29 اسْتَوَى	قصد کیا	35 لَا تَقْرَبَا	مت قریب جانا (تم دونوں)
22 أَخْرَجَ	نکالا	25 مُتَشَابِهًا	ملتا جلتا	29 سَوَّيْنِ	ٹھیک بنایا انکو	35 هَذِهِ	یہ
22 بِهِ	اسکے ذریعہ	25 أَزْوَاجٍ	بیویاں (زوج sg.)	29 سَبَّحَ	سات	35 شَجَرَةً	درخت
22 ثَمَرَاتٍ	پھل	25 مُطَهَّرَةً	پاکیزہ	29 عَلِيمٍ	جاننے والا	35 فَتَكُونَا	پھر ہوجاؤ گے (تم دونوں)
22 فَلَا تَجْعَلُوا	سو نہ ٹھہراؤ	25 خَالِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے	30 لِلْمَلَائِكَةِ	فرشتوں سے (ملک sg.)	35 ظَالِمِينَ	ظالم (pl.)
22 أَلَدَاذَا	شریک (جمع)	26 لَا يَسْتَحْيٰ	نہیں شرماتا	30 خَلِيفَةً	نائب	36 فَازْلَهُمَا	پھر بھسلایا ان دونوں کو
22 أَنتُمْ	تم	26 أَنْ	کہ	30 يَسْفِكُ	بہاے گا	36 اهْبِطُوا	اتر جاؤ
23 إِنَّ	اگر	26 يَضْرِبُ مَثَلًا	بیان کرے مثال	30 دِمَاءٌ	خون	36 بَعْضُكُمْ	بعض تمہارے
23 كُنْتُمْ	تم ہو	26 بَعُوضَةً	مچھر	30 نُسِجُ	ہم بے عیب کہتے ہیں	36 عَدُوٌّ	دشمن
23 نَزَّلْنَا	ہم نے اتارا	26 فَمَا	خواہ جو	30 نُقَدِّسُ	ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں	36 مُسْتَقَرٌّ	ٹھکانا
23 عَبْدًا	بندہ ہمارا (عباد: pl.)	26 فَوْقَهَا	اور اس کے	31 عَلِمَ	سکھائے	36 مَتَاعٌ	سامان، خرچ
23 فَأَتُوا	تولے آؤ	26 فَمَا	سو جو	31 أَسْمَاءَ	نام (اسم sg.)	36 حِينَ	وقت
23 سُورَةً	ایک سورہ	26 أَنَّهُ	کہ وہ	31 عَرَضَهُمْ	سامنے کیا انہیں	37 فَتَلْقَى	پھر حاصل کرلیے
23 وَ ادْعُوا	اور بلاؤ	26 حَقٌّ	حق، سچ، لازم	31 أَتَيْنُونِي	بتلاؤ مجھے	37 كَلِمَاتٍ	کلمے
23 شُهَدَاءَكُمْ	مددگار تمہارے	26 مَاذَا	کیا	31 هُوَ لَأَ	ان	37 فَتَابَ عَلَى	پس توبہ قبول کی
23 صَادِقِينَ	سچے	26 أَرَادَ	ارادہ کیا	32 سُبْحَانَكَ	پاک ہے تو	37 تَوَابٌ	توبہ قبول کرنے والا
24 لَمْ تَفْعَلُوا	تم نہ کر سکو	26 يُضِلُّ	گمراہ کرتا ہے	32 لَا عِلْمَ	نہیں کوئی علم	38 فِيمَا	پس جب
24 لَنْ تَفْعَلُوا	تم ہرگز نہ کر سکو گے	26 كَثِيرًا	بہت سے	32 لَنَا	واسطے ہمارے، ہمیں	38 يَأْتِيَنَّكُمْ	پہنچے تمہیں
24 أَلَيْ	جس کا	26 يَهْدِي	ہدایت دیتا ہے	32 أَأَنْتَ	تو	38 مِّنِّي	میری طرف سے
24 وَفُودَهَا	ایندھن	26 فَاسْقِينَ	نافرمان	32 حَكِيمٌ	حکمت والا	38 تَبَعَ	جلا (اتباع کی)
24 حِجَارَةً	پتھر (حجر: sg.)	27 يَنْقُضُونَ	توڑتے ہیں	33 أَعْلَمُ	میں جانتا ہوں	38 خَوْفٌ	کوئی خوف
24 أَعْدَتُ	تیار کی گئی	27 عَهْدٍ	وعدہ	33 تُبْذُونَ	تم ظاہر کرتے ہو	38 يَحْزَنُونَ	غمگین ہوں گے
25 بَشَرٌ	خوش خبری دو	27 بَعْدِ	بعد	34 تَكْتُمُونَ	تم چھپاتے ہو	39 كَذِبُوا	جھٹلایا انہوں نے
25 عَمِلُوا	انہوں نے عمل کیے	27 مِيثَاقٍ	پختہ اقرار	34 أُسْجِدُوا	سجدہ کرو	39 آيَاتِنَا	آیات ہماری
25 صَالِحَاتٍ	نیک (صالحۃ sg.)	27 يَقْطَعُونَ	کاتتے ہیں	34 إِبْلِيسَ	ابلیس	39 أَصْحَابُ النَّارِ	دوزخ والے
25 أَنْ	کہ	27 يُوصِلُ	وہ جوڑے رکھیں	34 أَبِي	انکار کیا	40 يَا	اے
25 جَنَّاتٍ	جنتیں، باغات	27 خَاسِرُونَ	نقصان اٹھانے والے	34 اسْتَكْبَرَ	تکبر کیا	40 بَنِي إِسْرَآئِيلَ	بیٹے یعقوب (علیہ السلام) کے
25 تَجْرِي	بہتی ہیں	28 كَيْفَ	کیوں کر، کس طرح	34 كَانَ	ہو گیا	40 اذْكُرُوا	یاد کرو
25 تَحْتِهَا	نیچے ان کے	28 أَمْوَالًا	مردے	35 أُسْكُنُ	تم رہو	40 نِعْمَتِي	نعمت میری
25 أَهْلًا	نہریں (نہر sg.)	28 فَأَحْيَاكُمْ	تو اس نے زندگی بخشی تمہیں	35 كُلَّا	تم دونوں کھاؤ	40 أَوْفُوا	پورا کرو تم
25 رَزَقُوا	کھانے کو دیا جائے گا	28 ثُمَّ	پھر	35 رَعَدًا	اطمینان سے	40 أَوْفِ	میں پورا کروں گا
25 مِنْهَا	اس سے	28 يُمِيتُكُمْ	مارے گا تم کو	35 حَيْثُ	جہاں کہیں	40 إِيَّايَ	مجھ ہی سے
25 هَذَا	یہ	29 جَمِيعًا	سب	35 شِئْمًا	تم دونوں چاہو	40 فَارْهَبُونِ	پس ڈرو مجھ سے

41	مُصَدِّقًا	تصدیق کرنے والا	49	اِلَّ	اولاد	55	جَهْرَةً	کہلَم کھلا	60	اِشْرَبُوا	تم پیو
41	لَا تَكُونُوا	مت ہو جاؤ	49	فِرْعَوْنَ	مصر کے بادشاہ کا نام	55	فَاَخَذْتُكُمْ	پھر تمہیں آلیا	60	لَا تَعْنُوا	تم نہ بھرو
41	اَوَّلَ	پہلے	49	يَسْؤُمُوْكُمْ	دکھ دیتے تھے تم کو	55	صَاعِقَةً	بجلی کی کڑک	61	لَنْ نُّصِیْرَ	ہرگز ہم صبر نہ کریں گے
41	ثَمَنًا	قیمت	49	سُوْءَ	برا	56	بَعَثْنَاكُمْ	ہم نے زندہ کیا تم کو	61	طَعَامٍ	کھانا
41	قَلِيلًا	تھوڑی	49	يُذَبِّحُونَ	ذبح کرتے تھے	57	ظَلَّلْنَا	ہم نے سایہ کیا	61	ثُبُتٌ	اُگاتی ہے
42	لَا تَلْبِسُوا	مت تم ملاؤ	49	اَنْبَاءَكُمْ	تمہارے بیٹے	57	غَمَامٍ	بادل	61	بَقْلٌ	ترکاری
42	بِالْبَاطِلِ	باطل سے، ناحق سے	49	يَسْتَحْيُونَ	زندہ چھوڑ دیتے تھے	57	اَلْمَنُّ	منّ	61	فِتْنًا	ککڑی
42	لَا تَكْتُمُوا	مت چھپاؤ	49	نِسَاءَكُمْ	عورتیں تمہاری	57	سَلَوٰی	سلوی	61	فُؤْمٍ	گندم
43	اَتَوَّا	ادا کرو، دو	49	بَلَاءٌ	آزمائش	57	كُلُوا	کھاؤ	61	عَدَسٌ	مسور
43	الزَّكوةَ	زکوٰۃ	50	فَرَقْنَا	ہم نے بھاڑ دیا	57	طَيِّبَاتٍ	پاک	61	بَصَلٌ	پیاز
43	ارْكَعُوا	رکوع کرو	50	بَحْرٌ	دریا	57	لَكِنْ	لیکن	61	تَسْتَبْدِلُونَ	تم بدلنا چاہتے ہو
44	اَتَاْمُرُونَ	کیا تم حکم دیتے ہو؟	50	اَعْرِفْنَا	ہم نے ڈبو دیا	58	ادْخُلُوا	تم داخل ہو جاؤ	61	اَذْنٌ	ادنی، معمولی
44	بِالْبَرِّ	نیکی کا	50	تَنْظُرُونَ	تم دیکھ رہے تھے	58	هَذِهِ	یہ	61	مِصْرٌ	شہر
44	تَنْسُونَ	تم بھول جائے ہو	51	وَاعِدْنَا	ہم نے وعدہ کیا	58	قَرِيَةً	بستی	61	سَائِمٌ	تم نے مانگا
44	تَثْلُونَ	تم پڑھتے ہو	51	مُوسٰی	موسیٰ علیہ السلام	58	بَابٌ	دروازہ	61	ذِلَّةٌ	ذلت
44	تَعْقِلُونَ	تم سمجھتے	51	اَرَبْعِينَ	چالیس، 40	58	حِطَّةٌ	بخش دے	61	مَسْكَنَةً	محتاجی
45	اسْتَعِیْنُوا	مدد حاصل کرو	51	لَيْلَةً	رات	58	نَغْفِرُ	ہم بخش دیں گے	61	بَاۡءُوا	وہ لوٹے
45	بِالصَّبْرِ	صبر سے	51	اِتَّخَذْتُمْ	تم نے بنا لیا	58	خَطَايَاكُمْ	خطائیں تمہاری	61	يَقْتُلُونَ	وہ قتل کرتے
45	لَكَبِيرَةٍ	بڑی دشوار	51	عِجْلٌ	بجھڑا	58	سَ	عنقریب	61	نَبِیِّیْنَ	نبی (جمع)، انبیاء
45	خَاشِعِينَ	عاجزی کرنے والے	52	عَفَوْنَا عَنْكُمْ	ہم نے معاف کر دیا تم کو	58	تَزِيدُ	ہم زیادہ دیں گے	61	بَغِیْرِ الْحَقِّ	ناحق
46	يُظُنُّونَ	یقین رکھتے ہیں	52	تَشْكُرُونَ	تم احسان مانو	58	مُحْسِنِينَ	نیکی کرنے والے	61	عَصَوًا	نافرمانی کی
46	مُلَاقُوا	روبرو ہونے والے	53	اِثْنَيْنِ	ہم نے دی	59	فَ	پھر	61	يَعْتَدُونَ	حد سے بڑھتے
46	رَاجِعُونَ	لوٹنے والے	53	الْفُرْقَانِ	جدا جدا کرنے والے احکام، کسوٹی	59	بَدَلٌ	بدل ڈالا	62	هَادُوا	وہ یہودی ہوں
47	فَضَلْتُ	فضیلت دی میں نے	54	لَقَوْمِهِ	اسکی قوم سے	59	رِجْزًا	عذاب	62	نَصَارًا	نصرانی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے
48	لَا تَجْزِيْ	نہ بدلہ بنے گا	54	ظَلَمْتُمْ	تم نے ظلم کیا	59	يَفْسُقُونَ	وہ نافرمانی کرتے تھے	62	صَابِیْنَ	صابی لوگ، ایک قوم کا نام
48	نَفْسٌ	کوئی نفس (اَنْفُس .pl)	54	فَتَوَبُوا	سو تم رجوع کرو	60	اسْتَسْقٰی	پانی مانگا	62	اُجْرُهُمْ	اجر انکا
48	عَنْ	سے	54	بَارِكُمْ	پیدا کرنے والا تم کو	60	اِضْرِبْ	مارو	63	رَفَعْنَا	ہم نے اُٹھایا
48	لَا يُقْبَلُ	نہ قبول کیا جائے گا	54	فَاقْتُلُوا	سو تم ہلاک کرو	60	عَصَا	عصا	63	الطُّورُ	کوہ طور
48	شَفَاعَةً	کوئی سفارش	54	خَيْرٌ	بہتر، کوئی نیکی، مال	60	اِنْفَجَرَتْ	پھوٹ پڑے	63	بِقُوَّةٍ	مضبوطی سے
48	لَا يُؤْخَذُ	نہ لیا جائے گا	54	عِنْدَ	نزدیک	60	اِثْنَا عَشْرَةَ	بارہ	64	تَوَلَّيْتُمْ	تم پھر گئے
48	عَدْلٌ	کوئی معاوضہ	55	لَكَ	تجھے	60	عَيْنًا	چشمے، آنکھ	64	فَضْلٌ	فضل
48	يُنْصَرُونَ	انکی مدد کی جائے گی	55	حَتّٰی	جب تک	60	قَدْ عَلِمَ	جان لیا	64	رَحْمَتُهُ	رحمت اسکی
49	نَجَّيْنَاكُمْ	ہم نے رہائی دی تم کو	55	نَرٰی	ہم دیکھ لیں	60	مَشْرَبٌ	گھاٹ	65	لَقَدْ	البتہ

65	اعْتَدُوا	زیادتی کی	74	قَسَتْ	سخت ہو گئے	83	الْمَسَاكِينِ	مسکین (جمع)	90	بُعْيًا	ضد
65	اَلَسَبْتُ	ہفتہ کا دن	74	أَشَدُّ	اس سے زیادہ	83	حُسْنًا	اچھی بات	90	مُهِينٌ	رسوا کرنے والا
65	كُونُوا	ہو جاؤ	74	قَسَوۡۃٌ	سخت	83	مُعْرِضُونَ	پھر جانے والے	91	وَرَاءَهُ	پیچھے اسکے
65	قِرَدَةً	بندر	74	يَتَفَجَّرُ	پھوٹ نکلتی ہیں	84	دِيَارِكُمْ	تمہاری بستیاں	91	فَلِمَ	سو کیوں
65	خَاسِنِينَ	ذلیل	74	يَشْقُقُ	بھٹ جاتے ہیں	84	أَقْرَرْتُمْ	تم نے اقرار کیا	92	أَشْرَبُوا	رجا دیا گیا
66	نَكَالًا	عبرت	74	يَهْبِطُ	گرتا ہے	84	تَشْهَدُونَ	تم گواہ ہو	92	يَأْمُرُكُمْ	حکم دیتا ہے تم کو
66	بَيْنَ يَدَيْهَا	اسکے سامنے	74	خَشِيعَةُ اللَّهِ	اللہ کا ڈر	85	تَظَاهَرُونَ	تم چڑھائی کرتے ہو	93	خَالَصَةً	خاص طور پر
66	خَلْفَهَا	اسکے پیچھے	74	بِغَافِلٍ	بے خبر	85	بِالْإِثْمِ	گناہ	93	ذُو النَّاسِ	سوائے لوگوں کے
66	مَوْعِظَةً	نصیحت	74	عَمَّا	اس سے جو	85	وَالْعُدْوَانِ	سرکشی	94	فَتَمَتَّعُوا	تو تم آرزو کرو
67	بَقَرَةً	کائے	75	أَفَتَطْمَعُونَ	کیا پھر تم توقع رکھتے ہو	85	أَسَارَى	قیدی (جمع)	95	أَبَدًا	کبھی بھی
67	هُزُوا	مذاق	75	فَرِيقٌ	ایک فریق	85	تُفَادُوهُمْ	تم بدلہ دے کر جھڑپے ہو	95	قَدِمَتْ	آگے بھیجا
67	الْجَاهِلِينَ	جاہل لوگ	75	يُحَرِّفُونَهُ	وہ بدل ڈالتے ہیں اسکو	85	مُحَرَّمٌ	حرام کیا گیا	96	لَتَجِدَنَّاهُمْ	البتہ تم باؤ گے انہیں
68	يُسِينَ	بتلائے	75	عَقْلُوهُ	انہوں نے سمجھ لیا اسکو	85	جَزَاءَ	بدلہ	96	أَحْرَصَ	زیادہ حرص
68	لَا فَارِضَ	نہ بوڑھی	76	أَتُحَدِّثُونَهُمْ	کیا تم بتاتے ہو انہیں	85	خَزِيٍّ	رسوائی	96	أَشْرَكُوا	(انہوں نے) شرک کیا
68	لَا بَكْرَ	نہ چھوٹی عمر	76	فَتَحَ	ظاہر کیا	85	الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی	96	يَوَدُّ	چاہتا ہے
68	عَوَانٌ	جوان	76	لِيُحَاجُّوكُمْ	تاکہ وہ حجت لائیں تم پر	85	الْقِيَامَةِ	قیامت	96	يُعَمَّرُ	عمر دیا جائے
69	لَوْثُهَا	رنگ اسکا	77	يُسْرِوْنَ	وہ چھپاتے ہیں	85	يُرْدُونَ	وہ لوٹائے جانیں گے	96	أَلْفَ	ہزار، 1000
69	صَفَرَاءُ	زرد رنگ	77	يُغْلَنُونَ	وہ ظاہر کرتے ہیں	86	يُخَفَّفُ	ہلکا کیا جائے گا	96	سَنَةً	سال
69	فَاقِعٌ	گہرا	78	أُمِّيُونَ	ان پڑھ لوگ (امی: واحد)	87	فَقِينًا	ہم نے بے در بے بھیجے	96	مُرْجَرِحِهِ	دور کرنے والا اسکو
69	تَسْرُ	اچھی لگتی	79	فَوَيْلٌ	سو (بس) خرابی ہے	87	الرُّسُلِ	رسول (جمع)	96	بَصِيرٌ	دیکھنے والا
69	نَاطِرِينَ	دیکھنے والے	79	يَكْتُبُونَ	وہ لکھتے ہیں	87	عِيسَى	عیسی علیہ السلام	97	جَبْرِيلَ	جبریل علیہ السلام
70	تَشَابَهَ	اشتباہ ہو گیا	79	أَيَّدِيهِمْ	ہاتھ انکے (يد: واحد)	87	أَيْنَ مَرْيَمَ	مریم کا بیٹا	97	يَاذُنَ	حکم سے
71	لَا دُلُولَ	نہ سدھی ہوئی ہو	79	يَكْسِبُونَ	وہ کماتے ہیں	87	الْبَيِّنَاتِ	کھلی نشانیاں	97	بُشْرَى	خوشخبری
71	تُثِيرُ الْأَرْضَ	جوتی زمین کو	80	لَنْ تَمْسَنَا	ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو	87	أَيَّدَانَاهُ	ہم نے مدد کی اسکی	98	مِيكَالَ	میکائیل علیہ السلام
71	تَسْقِي	پانی دیتی	80	مَعْدُودَةً	چند	87	رُوحَ الْقُدُسِ	حضرت جبریل علیہ السلام	100	عَاهِدُوا	انہوں نے عہد کیا
71	حَرْتُ	کھیتی	80	يُخْلِفَ	وہ خلاف کرے گا	87	جَاءَكُمْ	پاس آیا تمہارے	100	نَبَذَهُ	توڑ دیا اسکو
71	مُسَلَّمَةً	بے عیب	81	سَيِّئَةً	کوئی برائی	87	لَا تَهْوَى	نہ چاہتے	100	أَكْثَرَهُمْ	اکثر انکے
71	لَا شَيْءَ	نہ کوئی داغ	81	أَحَاطَتْ	گھیر لیا	88	غُلْفٌ	پردہ	101	ظُهُورِهِمْ	پیٹھیں انکی
71	أَلَّنَ	اب	83	لَا تَعْبُدُونَ	تم عبادت نہ کرنا	88	بَلْ	بلکہ	101	أَتَّبِعُوا	انہوں نے پیروی کی
71	وَمَا كَادُوا	اور وہ نہ لگتے تھے	83	بِالْوَالِدَيْنِ	والدین کے ساتھ	88	لَعَنَهُمْ	لعنت کی ان پر	101	تَتَلَّوْا	پڑھتے
72	نَفْسًا	ایک جان، ایک آدمی	83	إِحْسَانًا	حسن سلوک، اچھا طریقہ	89	يَسْتَفْتِحُونَ	وہ فتح مانگتے	101	الشَّيَاطِينُ	شیطان (جمع)
72	فَادَارَءُتُمْ	پھر تم جھگڑنے لگے	83	وَذِي الْقُرْبَى	قرباں دار	89	عَرَفُوا	پہچانا انہوں نے	101	مُلْكٌ	بادشاہت
73	بِبَعْضِهَا	اسکا ٹکڑا	83	الْيَتَامَى	یتیم	90	بِسْمَا	برا بے جو	101	سُلَيْمَانَ	سلیمان علیہ السلام

101 السَّحَرُ جادو	111 بُرْهَانُكُمْ دلیل تمہاری	120 مَلَّتْهُمْ دین انکا	128 وَأَرَاتْنَا اور دکھا ہمیں
101 بَابِلَ شہر بابل	112 أَسْلَمَ جھکا دیا	120 أَهْوَاءُهُمْ خواہشات انکی	128 مَتَّاسِكْنَا حج کے طریقے ہمارے
102 هَارُوتَ وَمَارُوتَ فرشتوں کا نام	112 وَجْهَهُ چہرہ اسکا	124 ابْتَلَى آزمایا	128 ثُبَّ عَلَيْنَا توہ قبول فرما ہماری
102 أَحَدٍ کوئی ایک	113 لَيْسَتْ نہیں	124 إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام	129 وَأَبْعَثُ اور بھیج
102 فِتْنَةً آزمائش، فتنہ	113 يَحْكُمُ فیصلہ کرے گا	124 بِكَلِمَاتٍ چند باتوں سے	129 وَالْحِكْمَةَ اور حکمت (دانائی)
102 يُفْرِقُونَ وہ جدائی ڈالتے	113 يَخْتَلِفُونَ اختلاف کرتے	124 فَاتَمَّهِنَّ تو پوری کر دیں انہیں	129 وَزَيَّكِهِمْ اور انہیں پاک کرے
102 الْمُرءِ خاوند، آدمی	114 أَظْلَمُ بڑا ظالم	124 إِمَامًا امام	129 الْعَزِيزُ غالب
102 ضَارِّينَ نقصان پہنچانے والے	114 مَنَعَ روکا	124 ذُرِّيَّتِي میری اولاد	129 يَرْغَبُ عَنْ منہ موڑے
102 يَضْرِبُهُمْ نقصان پہنچانے انہیں	114 مَسَاجِدَ مسجدیں	124 لَا يَنَالُ نہیں پہنچتا	130 اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے جن لیا اسکو
102 وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور نہیں نفع دے انکو	114 وَسَعَى اور کوشش کی	125 الْبَيْتِ وہ گھر، خانہ کعبہ	130 الصَّالِحِينَ نیکو کار (pl)
102 مِنْ خَلْقٍ کوئی حصہ	114 خَرَابِهَا ویرانی اسکی	125 مَتَابَةَ اجتماع کی جگہ	131 أَسْلِمَ سر جھکا دے
103 مَثُوبَةً ٹھکانہ	114 خَائِفِينَ ڈرتے ہوئے، ڈرنے والے	125 أَمْنًا امن کی جگہ	131 وَوَصَّى اور وصیت کی
104 رَاعِنَا خیال رکھیے ہمارا	115 الْمَشْرِقُ مشرق	125 مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مقام ابراہیم	131 يَعْقُوبُ یعقوب علیہ السلام
104 انْظُرْنَا متوجہ ہوں (دیکھئے) ہماری طرف	115 وَالْمَغْرِبُ اور مغرب	125 مُصَلًّى نماز کی جگہ	131 فَلَا تَمُوتُنَّ پس تم ہرگز نہ مرنا
105 أَهْلَ الْكِتَابِ اہل کتاب	115 فَأَيَّمَا سو جس طرف	125 عَهْدُنَا ہم نے حکم دیا	133 حَضَرَ آئی
105 يَخْتَصُّ خاص کر لیتا ہے	115 تَوَلَّوْا تم منہ کرو	125 إِسْمَاعِيلَ اسماعیل علیہ السلام	133 إِلَهَكَ معبود تیرا
105 ذُو الْفَضْلِ فضل والا	115 فَتَمَّ تو اس طرف	125 طَهَّرَا پاک رکھو (تم دونوں)	133 آبَاكَ باپ دادا تیرے
106 تَسَخَّرَ ہم منسوخ کرتے ہیں	115 وَاسِعٌ وسعت والا	125 لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کیلئے	133 إِسْحَقَ اسحاق علیہ السلام
106 آيَةً کوئی آیت	116 وَلَكِنَّا بیٹا	125 وَالْعَاكِفِينَ اور رکوع کرنے والے	134 قَدْ خَلَتْ گزر گئی
106 نُسَيْهَا ہم بھلا دیتے ہیں اسکو	116 فَاتَّبُونِ زیر فرمان، فرمانبردار	125 وَالرُّكْعَ اور رکوع کرنے والے	134 وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سے پوچھا جائے گا
106 نَأْتِ بِہم لے آتے ہیں	117 بَدِيعٌ پیدا کرنے والا	125 السُّجُودِ سجدہ کرنے والے	135 حَنِيفًا ایک اللہ کا ہوجانے والا
107 وَلِيٍّ حامی	117 إِذَا قَضَى جب فیصلہ کرتا ہے	126 بَلَدًا شہر	135 الْمُشْرِكِينَ شرک کرنے والے
107 نَصِيرٍ مددگار	117 كُنْ ہو جا	126 آمِنًا امن والا	136 سَبَّاحٍ اولاد یعقوب علیہ السلام
108 تَسْأَلُوا تم سوال کرو	117 فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے	126 أَهْلُهُ اسکے رہنے والے	136 أُوتِيَ دیا گیا
108 سِئْلَ سوال کیے گئے	118 يُكَلِّمُنَا بات کرتا ہم سے	126 فَامْتَنِعْ تو میں نفع دوں گا اسکو	136 لَا تُفَرِّقْ نہیں ہم فرق کرتے
108 يَتَّخِذُ اختیار کرلے	118 تَأْتِينَا آتی ہمارے پاس	126 أَضْطَرُّهُ میں مجبور کروں گا اسکو	137 فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے
109 حَسَدًا حسد	118 قَدْ بَيَّنَّا ہم نے واضح کر دیں	126 الْمَصِيرُ لوٹنے کی جگہ	137 فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس عنقریب کافی ہوگا آپ کیلئے انکے مقابلے میں
109 تَبَيَّنَ واضح ہو گیا	119 أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بھیجا آپ کو	127 الْقَوَاعِدَ بنیادیں	138 صِبْغَةً رنگ
109 وَاصْفَحُوا اور درگزر کرو	119 بَشِيرًا خوشخبری دینے والا	127 تَقَبَّلْ قبول فرمالے	138 أَحْسَنُ زیادہ اچھا
111 لَنْ يَدْخُلَ <b>ثَلَاثَةً</b> ہرگز نہیں داخل ہوگا	119 نَذِيرًا ڈرانے والا	127 السَّيِّعُ ستنے والا	138 عَابِدُونَ عبادت کرنے والے
111 هُودًا یہودی	119 أَصْحَابِ الْجَحِيمِ دوزخ والے	128 مُسْلِمِينَ فرمانبردار (pl)	139 اتَّخَذُوا كَمَا کیا تم جھگڑا کرتے ہو
111 أَمَانِيَهُمْ جھوٹی آرزوئیں انکی	120 لَنْ تَرْضَى ہرگز راضی نہ ہوں گے	128 أُمَّةً امت	139 أَعْمَالُنَا اعمال ہمارے
111 هَاتُوا لاؤ	120 تَتَّبِعْ آپ پیروی کریں	128 مُسْلِمَةً فرمانبردار (fg)	139 مُخْلِصُونَ خالص لوگ ((pl))
			140 كَثَمَ چھپایا

## (((پارہ-2))))

142	وَلَا هُمْ	پھیر دیا انکو	158	حَجَّ	حج کرے	173	لَحْمَ الْخَيْرِ	گوشت سور کا	184	أَيَّامٍ أُخَرَ	دن دوسرے یا بعد کے
142	قَبْلَهُمْ	قبلہ انکا	158	اعْتَمَرَ	عمرہ کرے	173	أَهْلٌ	پکارا گیا	184	يُطِيقُونَهُ	طاقت رکھتے ہوں اسکی
143	وَسَطًا	معتدل، بیچ کی راہ والی	158	فَلَا جُنَاحَ	تو نہیں کوئی حرج	173	غَيْرَ بَاغٍ	نہ سرکشی کرنے والا	184	فِدْيَةٌ	بدلہ
143	يَقْلِبُ	پھر جاتا ہے	158	يَطُوفُ	وہ طواف کرے	173	عَادٍ	حد سے بڑھنے والا	185	شَهْرُ رَمَضَانَ	مہینہ رمضان کا
143	عَقِيْبِهِ	ایڑیاں اسکی	158	تَطْوَعُ	خوشی سے کرے	173	غَفُوْرٌ	بخشنے والا	185	الْفُرْقَانِ	حق کو باطل سے جدا کرنیوالا، کسوٹی
143	لِيُضِيعَ	کہ وہ ضائع کردے	158	شَاكِرٌ	قدر داں	175	الْمُغْفِرَةِ	مغفرت	185	شَهِدَ	پاے
143	إِيْمَانَكُمْ	ایمان تمہارے	160	وَأَصْلَحُوا	اور اصلاح کی	175	أَصْبَرَهُمْ	بہت صبر کرنے والے	185	يُرِيدُ	چاہتا ہے
143	لَرُؤُوفٌ	بڑا شفیق	161	أَجْمَعِينَ	تمام (pl)	176	بَعِيدٌ	دور	185	الْيُسْرِ	آسانی
144	تَقْلَبُ	بار بار پھرنا	162	يُنْظَرُونَ	انہیں مہلت دی جائے گی	177	ابْنِ السَّبِيلِ	مسافر	185	الْعُسْرِ	دشواری
144	شَطْرَ	طرف	164	اِخْتِلَافٍ	بدلتے رہنا	177	السَّائِلِينَ	سوال کرنے والے	185	وَلِتَكْمَلُوا	اور تاکہ تم پوری کرو
144	الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	مسجد حرام (کعبہ کی مسجد)	164	وَالْتَهَارِ	اور دن	177	الرَّقَابِ	گردنیں	185	وَلِتَكْبَرُوا	اور تاکہ تم بڑائی کرو
144	أَوْثُوا الْكُتَابَ	دی گئی کتاب	164	الْفُلْكِ	کشتی	177	الْمُؤْمِنُونَ	پورا کرنے والے	186	قَرِيبٌ	قریب
147	الْمُتَمَرِّينَ	شک کرنے والے	164	وَبَثَّ	اور پھیلانے	177	الْبَاسَاءِ	سختی	186	أُحِيبُ	میں قبول کرتا ہوں
148	وَجْهَةً	ایک سمت، رخ	164	ذَاتِ	جانور	177	الْبَاسِ	جنگ	186	فَلْيَسْتَجِيبُوا	پس جاہے کہ وہ حکم مانیں
148	مَوْلَاهَا	رخ کرتا ہے اس طرف، رخ کرنے والا اس طرف	164	تَصْرِيفٍ	بدلنا	178	كُتِبَ	فرض کیا گیا	186	يُرْشِدُونَ	وہ ہدایت پائیں
148	فَاسْتَبِقُوا	پس تم سبقت لے جاؤ	164	الرِّيَّاحِ	ہوائیں	178	الْفِصَاصُ	قصاص	187	أَحِلَّ	جائز کردیا گیا
148	الْخَيْرَاتِ	نیکیاں	164	السَّحَابِ	بادل	178	فِي الْقَتْلِ	مقتولوں میں	187	الرِّفْثُ	بے پردہ ہونا
148	يَأْتِ بِكُمْ	لے آئیگا تم کو	164	الْمُسْحَرِ	تابع	178	الْحُرُّ	آزاد	187	لِبَاسٌ	لباس
150	لِنَا	تاکہ نہ	165	يُحِبُّوْنَهُمْ	محبت کرتے ہیں ان سے	178	الْعَبْدُ	غلام	187	تُخَانِثُونَ	تم خیانت کرتے
150	حُجَّةٌ	کوئی دلیل	166	إِذْ تَبَرَّأَ	جب بیزار ہو جائیں گے	178	أُنْثَى	عورت	187	يَبْيِئْنَ	واضح ہو جائے
150	فَلَا تَخْشَوْهُمْ	سو تم نہ ڈرو ان سے	166	وَتَقَطَّعَتْ	کٹ جائیں گے	178	أَخِيهِ	بھائی اسکا	187	الْخِطُّ أَيْضُ	سفید دھاری
150	وَتَمَّ	اور تاکہ میں پوری کروں	166	سَبَابُ	وسائل	178	بِالْمَعْرُوفِ	مطابق دستور	187	الْخِطُّ أَسْوَدُ	سیاہ دھاری
155	وَلِتَبْلُوكُمْ	اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں	167	كَرَّةٌ	دوبارہ	178	أَدَاءُ إِلَيْهِ	ادا کرنا اسے	187	الْفَجْرِ	فجر
155	وَالْجُوعِ	اور بھوک	168	حَالًا	حلال	178	تَخْفِيفٌ	آسانی، کمی	188	وَتَذَلُّوا بِهَا	اور (نہ) پہنچاؤ اس سے
155	وَتَقْصِ	اور نقصان	168	خُطُواتِ	قدم (pl)	178	أُولِيَ الْبَابِ	عقل والے	188	الْحُكَّامِ	حاکموں تک
155	أَمْوَالِ	مال (pl)	168	مُبِينٌ	کھلا	180	الْوَصِيَّةُ	وصیت	189	يَسْأَلُونَكَ	وہ پوچھتے ہیں آپ سے
156	أَصَابَهُمْ	پہنچے انکو	169	الْفَحْشَاءِ	بے حیائی	180	وَأَفْرَيْنَ	اور رشتہ دار	189	هَلَّةٌ	نئے چاند
156	مُصِيبَةٌ	کوئی مصیبت	170	أَلْفَيْنَا	ہم نے پایا	182	خَافَ	خوف کرے	189	مَوَاقِيتُ	(پیمانہ) اوقات
156	صَلَوَاتٍ	عنایتیں	171	يَنْعِقُ	پکارتا ہے	182	مُوصٍ	وصیت کرنے والا	191	تَقْفَتُمُوهُمْ	تم پاؤ انہیں
158	الصَّفَا	صفا	171	دُعَاءِ	پکارنا	182	جَنَفًا	طرفداری	193	اتَّهَوْا	وہ باز آجائیں
158	وَالْمَرْوَةَ	اور مروہ	171	نِدَاءِ	چلانا	183	الصِّيَامِ	روزے	195	وَلَا تُلْقُوا	اور نہ ڈالو
158	شَعَائِرِ اللَّهِ	نشانات اللہ کے	172	يَأْيُهَا	اے	184	سَفَرٍ	سفر	195	التَّهْلُكَةِ	ہلاکت
			173	الْمِيْنَةِ	مردار	184	عِدَّةٌ	گنتی	196	الْعُمَرَةَ	عمرہ

196 أَحْصِرْتُمْ	تم روک دیے جاؤ	203 تُحْشِرُونَ	جمع کیے جاؤ گے	217 يَرْتَدُّ	پھر جائے	228 رَدَّهِنَّ	واپسی انکی
196 اسْتَيْسَرَ	میسر آئے	204 يُعْجِبُكَ	بہلی معلوم ہوتی ہے تمہیں	217 حَبِطَتْ	ضائع ہو گئے	228 وَلِلرَّجَالِ	اور مردوں کیلئے
196 الْهَدْيُ	قربانی	204 وَيُشْهِدُ اللَّهَ	اور گواہ بناتا ہے اللہ کو	218 هَاجَرُوا	انہوں نے ہجرت کی	228 دَرَجَةً	درجہ (ہجرتی)
196 وَلَا تَحْلِفُوا	اور نہ منڈاؤ	204 أَلَدُ الْخِصَامِ	سخت جھگڑالو	218 جَاهَدُوا	انہوں نے جہاد کیا	229 مَرَّتَانِ	دو بار
196 رُؤُوسَكُمْ	سر تمہارے (رأس: sg)	205 النُّسْلَ	نسل	218 يَرْجُونَ	وہ امید رکھتے ہیں	229 إِمْسَاكٌ	روک لینا
196 يَبْلُغُ	پہنچ جائے	206 الْعِرَّةُ	عزّت (غروں)	219 الْخَمْرِ	شراب	229 تَسْرِيحٌ	رخصت کرنا
196 مَحِلُّهُ	جگہ اسکی	206 فَحَسْبُهُ	تو کافی ہے اسکو	219 الْمَيْسِرِ	جوا	229 آتَيْتُمُوهُنَّ	تم نے دیا انکو
196 أَدَّى	تکلیف	206 جَهَنَّمَ	جہنم	219 الْعَقْرِ	زائد از ضرورت	229 افْتَدَتْ	بدلہ دے (fg)
196 نُسْكُ	قربانی	206 الْمِهَادُ	ٹھکانا	219 تَتَفَكَّرُونَ	تم غور و فکر کرو	229 يَتَعَدَّدُ	آگے بڑھتا ہے
196 أَنْتُمْ	تم امن میں ہو	207 يَشْرِي	بیچ ڈالتا ہے	220 إِصْلَاحٌ	اصلاح	230 يَتَرَاجَعَا	وہ دونوں رجوع کر لیں
196 تَمَنَّعَ	فائدہ اُٹھائے	207 مَرَضَاتِ اللَّهِ	رضا اللہ کی	220 تُخَالِطُوهُمْ	تم ملا لو انکو	230 إِنْ ظَنَّا	بشرطیکہ وہ خیال کریں
196 لَمْ يَجِدْ	نہ پائے	208 كَافَّةً	پورے پورے	220 غَنَتَكُمْ	ضرور مشقّت میں ڈالتا تم کو	231 سَرَّحُوهُنَّ	رخصت کردو ان عورتوں کو
196 ثَلَاثَةٌ	تین	209 زَلَلْتُمْ	تم ڈکھکا گئے	221 لَا تَنْكِحُوا	نہ نکاح کرو	231 يَعْطُكُمُ	نصیحت کرتا ہے تم کو
196 كَامِلَةٌ	پورے	210 هَلْ	کیا	221 أُمَّةٌ	لوہڈی	232 لَا تَعْضَلُوهُنَّ	نہ روکو ان عورتوں کو
196 شَدِيدُ الْعِقَابِ	سخت عذاب والا	210 فِي ظُلَلٍ	سانبانوں میں	221 لَا تَنْكِحُوا	نہ نکاح کرواؤ	232 إِذَا تَرَاصُوا	جب وہ راضی ہوں
197 مَعْمُونَاتٍ	معلوم (مقرر)	210 قُضِيَ	طے ہو جائے	221 يَتَذَكَّرُونَ	نصیحت پکڑیں	232 أَرْكَى	زیادہ سٹھرا
197 فَرَضَ	لازم کر لیا	210 أُمُورٌ	تمام کام	222 الْمَحِيضِ	حالت حیض	232 أَطْهَرُ	زیادہ پاکیزہ
197 وَلَا فُسُوقَ	اور نہ گالی	211 كَمْ	کس قدر	222 فَاعْتَرِلُوا	پس تم الگ رہو	233 يُرْضِعَنَّ	دودھ پلائیں
197 وَلَا جِدَالَ	اور نہ جھگڑا	212 زَيْنَ	آراستہ کی گئی	223 قَدُمُوا	آگے بھیجو	233 حَوَّيْنِ	دو سال
197 تَزَوَّدُوا	تم زاد راہ لے لیا کرو	212 يَسْتَحِرُونَ	وہ ہنستے ہیں	224 غُرَضَةٌ	نشانیہ	233 كَامِلَيْنِ	پورے دو
198 تَتَّبِعُوا	تلاش کرو	213 مُبَشِّرِينَ	خوشخبری دینے والے	224 أَيْمَانِكُمْ	قسمیں تمہاری	233 الْمُؤَلُّودُ لَهُ	جس کا بچہ (باپ)
198 أَقْضَيْتُمْ	تم لوٹو	213 مُنْذِرِينَ	ڈرانے والے	224 تَبَرُّوا	تم حسن سلوک کرو	233 كِسُوتُهُنَّ	لباس ان عورتوں کا
198 عَرَافَاتٍ	عرفات	214 حَسِبْتُمْ	تم خیال کرتے ہو	225 اللُّغُو	لغو (بیہودہ)	233 لَا تُكَلِّفُ	نہیں تکلیف دیتی جاتی
198 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	مشعر حرام	214 مَسْتَهُمْ	پہنچی انہیں	225 حَلِيمٌ	بردبار	233 وَسُعْهَا	وسعت اس (نفس) کی
198 وَاسْتَغْفِرُوا	اور مغفرت چاہو	214 زُلْزِلُوا	ہلا دیے گئے	226 يُؤُولُونَ	قسم کھاتے ہیں	233 لَا تُضَارَّ	نہ نقصان پہنچایا جائے
199 قَضَيْتُمْ	تم ادا کر چکو	214 مَتَى	کب	226 تَرُبُّصٌ	انتظار	233 الْوَارِثِ	وارث
200 آتَا	دے ہمیں	216 الْقِتَالُ	جنگ	226 فَأَوُّوا	رجوع کر لیں	233 فِصَالًا	دودھ چھڑانا
201 حَسَنَةً	بھلائی	216 كُرَّةٌ	ناگوار	227 عَزَمُوا	انہوں نے ارادہ کیا	233 عَنْ تَرَاضٍ	آپس کی رضامندی سے
201 وَقَنَا	اور بچا ہمیں	216 عَسَى	ممکن ہے	227 الطَّلَاقُ	طلاق	233 تَشَاوُرٌ	باہم مشورہ
201 نَصِيبٌ	حصہ	216 شَرٌّ	بری	228 ثَلَاثَةُ فُرُوعٍ	تین مدتِ حیض	233 تَسْتَرْضِعُوا	تم دودھ پلاؤ
202 سَرِيعَ الْحِسَابِ	جلد حساب لینے والا	217 صَدٌّ	روکنا	228 فِي أَرْحَامِهِنَّ	انکے رحم (جمع) میں	233 سَلَّمْتُمْ	تم حوالہ کردو
203 تَعَجَّلَ	جلدی کی	217 لَا يَزَالُونَ	ہمیشہ رہینگے (نہ رائل ہونگے، نہ تلیں گے)	228 بُعُولَتِهِنَّ	خاوند (جمع) انکے	234 يُتَوَقَّوْنَ	وفات پا جائیں
203 تَأَخَّرَ	تاخیر کی	217 إِنْ اسْتَطَاعُوا	اگر وہ کرسکیں	228 أَحَقُّ	زیادہ حقدار	234 يَذَرُونَ	چھوڑ جائیں

ثَلَاثَةٌ

نصف

جسم	247	أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ	چار مہینے
سامان تسکین	248	أَجَلَهُنَّ	مدّت (عدّت) ان عورتوں کی
بچی ہوئی	248	خَبِيرٌ	باخبر
ہاورن علیہ السلام	248	عَرَضْتُمْ	تم اشارہ میں دو
اُنھائیں گے اسے	248	خَطْبَةٍ	بیغام نکاح
باہر نکلا	249	أَكُنْتُمْ	تم چھاؤ
لشکر	249	لَا تَوَاعِدُوهُنَّ	نہ وعدہ کرو ان عورتوں سے
آزمائش کرنے والا تمہاری	249	لَمْ تَمْسُوهُنَّ	نہ تم نے ہاتھ لگایا ان عورتوں کو
نہ چکھا اسے	249	تَفَرِّضُوا	تم نے مقرر کیا
چلو بھر لے	249	فَرِيضَةً	مہر
ایک چلو	249	مَتَّعُوهُنَّ	خرج دو ان عورتوں کو
پار ہوئے اسکے	249	الْمُوسِعِ	خوش حال، وسعت والا
نہیں طاقت	249	قَدْرُهُ	حیثیت اسکی
ایک ظالم اور مشرک بادشاہ	249	الْمُقْتِرِ	تنگدست
جماعتیں چھوئی	249	نَصْفُ	آدھا
غالب ہوئیں	249	عُقْدَةُ النِّكَاحِ	گرہ نکاح کی
آمنے سامنے ہوئے	250	حَافِظُوا	حفاظت کرو
ڈال دے	250	قَانِتِينَ	فرمانبردار (pl)
جما دے	250	رُكْبَانًا	سوار
پھر انھوں نے شکست دی ان کو	251	مَتَاعًا	نان نفقہ
داود علیہ السلام	251	الْحَوْلِ	سال
بتانا	251	يُقْرِضُ	قرض دے
ضرور تباہ ہوجاتی	251	فَيُضَاعِفُهُ	پس وہ بڑھا دے اسے
رسول (pl)، بھیجے ہوئے	252	أَضْعَافًا	کئی گنا
		كَثِيرَةً	زیادہ
		يَقْبِضُ	تنگی کرتا ہے
		يَبْسُطُ	فراخی کرتا ہے
		الْمَلَا	جماعت
		مَلِكًا	ایک بادشاہ
		عَسَيْتُمْ	ہوسکتا ہے کہ تم، ممکن ہے کہ تم
		طَالُوتَ	ایک مؤمن سردار کا نام
		سَعَةً	وسعت
		بَسْطَةً	وسعت

Understand Quran Academy

Hyderabad, India

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)The words are arranged as follows:  
Ayah #; Word; Meanings